



سوال

(68) فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا رسول اللہ ﷺ سے یہ وارد ہے کہ آپ ﷺ فرض نماز کے بعد دعا میں اپنے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے؟ یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مجھے کہا کہ آپ ﷺ فرض نماز کے بعد دعا کے وقت ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔

مریم۔ م۔ الریاض

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جو کچھ ہمیں معلوم ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو نبی ﷺ فرض نماز کے بعد اپنے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اور نہ ہی آپ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم ایسا کیا کرتے تھے اور بعض لوگ فرض نماز کے بعد اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ بدعت ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرًا فَهُوَ زَوْرٌ))

”جس نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا عمل نہیں وہ مردود ہے“

اسے مسلم نے اپنی صحیح میں نکالا... نیز آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا بَدَأَ لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ زَوْرٌ)) (مستفق علیہ)

”جس نے ہمارے اس امر (شریعت) میں کوئی نئی بات پیدا کی جو اس میں نہ تھی وہ مردود ہے“ (مستفق علیہ)

ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب



مجلس البحث والدراسات
محدث فتوى
ISLAMIC RESEARCH COUNCIL

فتاویٰ دارالسلام

ج 1

محدث فتویٰ